

برائے فوری اجراء

## برامپٹن ایکسیبلٹی ایوارڈز کے لیے نامزدگیاں اب کھلی ہیں

برامپٹن، آن (2 فروری 2021) – سٹی آف برامپٹن کے 2021 ایکسیبلٹی ایوارڈز کے لیے نامزدگیاں اب کھلی ہیں۔

ایکسیبلٹی ایوارڈز شہری اعزاز کا ایک پروگرام ہے، جو رسائی کی آسانی اور معذوریوں کے حامل لوگوں کی شمولیت کے حوالے سے عزم ظاہر کرنے والے افراد، کاروباروں اور تنظیموں کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔

نامزدگیوں کو درج ذیل شعبہ جات میں ان کی کامیابیوں اور خدمات کی بنیاد پر جانچا جائے گا:

- رکاوٹوں سے بچانا یا ختم کرنا – رکاوٹ کا تعلق رویے، رابطے، جسمانی حالت، پروگراموں، معاشرے یا نقل و حمل یا پالیسی سے ہو سکتا ہے۔
- معذوری کے حامل افراد کے لیے رسائی پیدا کرنا – رسائی پیدا کرنے میں جگہ، شیڈول یا کام میں ایسی تبدیلی شامل ہو سکتی ہے، جو کسی کو کمیونٹی میں شامل ہونے کے قابل بنائے۔
- رسائی کا سفیر ہونا یا اس شعبے میں اچھی شہرت رکھنا – کمیونٹی میں رسائی کے متعلق آگاہی کو فروغ دینا۔
- معذوریوں کے حامل افراد کے لیے ملازمت میں معاونت فراہم کرنا – جائے کار میں شامل ہونے کے مواقع پیدا کرنا۔
- رسائی کے لیے ایک مثالی کسٹمر سروس فراہم کرنا – گاہک کی درخواست کو سمجھنے کے لیے وقت نکالنا اور ایک موزوں حل کی پیشکش کرنا۔
- خود مختار زندگی گزارنے میں معاونت فراہم کرنا – مہارتوں کی تربیت اور معاونت میں مدد فراہم کرنا۔

اس سال پہلی مرتبہ، پروگرام میں تبدیلی کر کے خود کو نامزد کرنا ممکن بنا دیا گیا ہے۔

ایک ایوارڈ کے لیے اہل ہونے کے لیے، نامزد افراد کو برامپٹن کا رہائشی، برامپٹن میں کام کرنے والی کمیونٹی یا غیر منافع بخش تنظیم یا برامپٹن میں کاور بار کے مالک ہونا چاہیے۔ نامزد افراد کی کامیابیوں اور خدمات کو برامپٹن کی کمیونٹی کے لیے لازمی طور پر فائدہ مند ہونا چاہیے۔

نامزدگیاں 31 مارچ تک قبول کی جائیں گی۔ ایوارڈز بہار میں پیش کیے جائیں گے۔

ایکسیبلٹی ایوارڈز اور آن لائن نامزدگی کے فارم کے متعلق مزید معلومات کے لیے، رہائشی [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) ملاحظہ کریں

### اقتباسات

"برامپٹن نگینوں سے جڑا ہوا ہے اور سٹی ہماری متنوع کمیونٹی میں تمام لوگوں کے لیے رسائی اور تعلق کا احساس بڑھانے کے مواقع کی تلاش کے لیے وقف ہے۔ اگر آپ کسی ایسے شخص، کاروبار یا تنظیم کو جانتے ہیں، جو معذوریوں کے حامل لوگوں کے لیے رسائی اور شمولیت کو بہتر کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ آپ 2021 ایکسیبلٹی ایوارڈز میں ان کی نامزدگی جمع کروا کر ان کی خدمات کا اعتراف کریں۔ یہ ہمارے شہر کو تمام لوگوں کے لیے مشمول بنانے کے لیے کام کرنے والے لوگوں کی خدمات کو تسلیم کرنا ایک زبردست موقع ہے۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"سٹی آف برامپٹن اور ریجن آف پیل کی ایکسیبلٹی ایڈوائزری کمیٹیوں کے ایک رکن کے طور پر، مجھے اس کام پر فخر ہے، جو برامپٹن کو تمام صلاحیتوں کے لوگوں کے لیے قابل رسائی اور مشمول بنانے کے لیے پورے شہر کے لوگ کر رہے ہیں۔ اگر آپ ہماری کمیونٹی میں کسی ایسے شخص، کاروبار یا تنظیم کے بارے میں جانتے ہیں، جو تنوع کے علمبردار ہیں اور ہماری کمیونٹی میں تبدیلی لانے کے لیے کام کر رہے ہیں، تو براہ کرم انہیں ایک ایکسیبلٹی ایوارڈ کے لیے نامزد کریں۔ ایک ساتھ مل کر، ہم برامپٹن کو تمام صلاحیتوں کے لوگوں کے لیے زیادہ قابل رسائی بنا سکتے ہیں۔"

- ہیٹ فورٹینی، ریجنل کونسلر، وارڈز 7 اور 8؛ ممبر سٹی آف برامپٹن ایکسیسیٹیو ایڈوائزری کمیٹی؛ ممبر ریجن آف پبل ایکسیسیٹیو ایڈوائزری کمیٹی

"سٹی میں، ہم اس بات کو یقینی بنانے کے وقف ہیں کہ تمام عمر اور صلاحیتوں کے لوگ برامپٹن میں ایک ہی قسم کی صلاحیتوں سے لطف اندوز ہوں اور یہ کہ تمام لوگوں کے لیے قابل رسائی جگہیں بنائی جائیں۔ ہماری کمیونٹی میں ان لوگوں کا شکریہ، جو ہمیں برامپٹن میں رسائی بڑھانے میں مدد دے رہے ہیں۔ ایکسیسیٹیو ایوارڈز ان لوگوں، کاروباروں اور تنظیموں کو اعزاز پیش کرنے کا ایک موقع ہے، جو معذوریوں کے حامل لوگوں کے لیے رسائی اور شمولیت کے لیے وقف ہیں۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

-30-

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)